

URDU

اردو

درامن بلدیہ میں کورونا ویکسین لگوانے کے بارے میں معلومات

کووڈ-19 کا انفیکشن ناروے اور درامن بلدیہ دونوں میں، خاص طور پر بچوں، نوجوانوں اور جوان بالغ افراد میں بڑھ رہا ہے۔ تاہم یہ بات اہم ہے کہ ہم انفیکشن کو روکیں تاکہ کم سے کم لوگ شدید بیمار ہوں اور وفات پائیں۔

کووڈ-19 کے وہ مریض جو اس وقت ہسپتال میں داخل ہیں ان میں زیادہ تر بوڑھے افراد جنکو ویکسین لگ چکی ہے یا ایسے بالغ افراد جنکو ویکسین نہیں لگی شامل ہیں۔

انفیکشن پر قابو پانے کا بہترین طریقہ ویکسین لگوانا ہے۔ ناروے میں کورونا ویکسین مفت ہے۔ ویکسین لگوانے کے لیے آپ کو نارویجن شناختی نمبر یا ڈی-نمبر کی ضرورت نہیں ہے، اسکے لئے تاریخ پیدائش اور نام کافی ہے۔

ناروے میں تمام افراد جن کی عمر 12 سال سے زیادہ ہے کورونا ویکسین لگوا سکتے ہیں۔

کورونا ویکسین کے فوائد:

- اگر آپ متاثر ہو جائیں تو ویکسین آپکو سنگین بیماری اور موت سے بچاتی ہے

- دوسروں کو متاثر کرنے کا خطرہ کم کرتی ہے

- کورونا سرٹیفکیٹ

اکثر مضر اثرات بے ضرر ہوتے ہیں اور تھوڑے ہی عرصے میں خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ کووڈ 19 کی بیماری سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کا خطرہ ویکسین کے سنگین مضر اثرات کے خطرے سے کہیں زیادہ معلوم ہوتا ہے۔

کیا ویکسین لگوانے کے سلسلے میں آپ کا اپنی صحت، ذاتی خدشات یا دوسری پریشانیوں کے بارے میں کوئی سوال ہے؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ذاتی معالج سے رابطہ کریں۔ ویکسین سے متعلق دیگر سوالات کے لیے بلدیہ کے ویکسین ٹیلی فون نمبر 32 04 40 00 پر رابطہ کریں۔

عملی معلومات:

اگر آپ وقت مقرر کروانا چاہتے ہیں تو اس نمبر 32 04 40 00 پر فون کریں۔ بروز Pfizer اور Moderna کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔



DRAMMEN
KOMMUNE